

برائے فوری اجراء

## برامپٹن کو اونٹیریو کی ایک انتہائی نوجوان دوستانہ کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے

برامپٹن، آن (7 مئی 2020) - سٹی آف برامپٹن کو پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو کی معاونت حاصل ہے، کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پلاٹینیم یوتھ فرینڈلی کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔

اس مرتبہ یہ تیسرا موقع ہے کہ جب اس شہر کو نوجوانوں کے لیے نشوونما اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے شاندار عزم رکھنے کے اعتراف کے لیے تسلیم کیا گیا ہے اور یہ رواں سال پلاٹینیم کی اس چوٹی کی حیثیت کو حاصل کرنے والی تین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔

نوجوانوں کے لیے دوستانہ کمیونٹی کا یہ اعزاز ہر تین سال بعد پورے اونٹیریو کی ایسی کمیونٹیز کو عطا کیا جاتا ہے جو 13 سے 19 سال کی عمر کے نوجوانوں کی انفرادی ضروریات کو تسلیم کرتی ہیں اور اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ان کو رہنمائی اور مشغولیت کے مواقع تک مستقل رسائی دستیاب ہو، جس میں فنون سے لے کر تفریح تک شہری شرکت کے تمام مواقع شامل ہوں۔ کمیونٹیز کے لیے نوجوانوں کے لیے دوستانہ ہونے کے 10 میں سے کم از کم 7 معیارات اصول پر پورا اترنا لازمی ہوتا ہے۔ ان تمام 10 معیارات پر پورا اترنے والی کمیونٹیز کو پلاٹینیم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ موجودہ طور پر اونٹیریو کی 47 کمیونٹیز کو نوجوان دوستانہ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔

برامپٹن 13 تا 19 سال عمر کے 58,800 نوجوانوں کا گھر ہے جن میں سے 43,111 نوجوان سٹی کی زیر نگرانی چلنے والے قابل اطلاق پروگراموں مثلاً مٹی میں منعقد ہونے والی نیشنل یوتھ ویک کی تقریبات، میں حصہ لیتے ہیں۔

برامپٹن میں موجود نوجوانوں کی کئی تنظیموں اور کمیونٹی کے سروس پارٹنرز نے بھی اس سال کے اعزاز کے حصول میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مکمل فہرست دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔

**پلے ورکس** ایسی تنظیموں کا ایک گروپ ہے جو نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ و بچار کرتا ہے اور اونٹیریو بھر کی کمیونٹیز سے نوجوانوں کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے مل جل کام کرتا ہے۔ پلے ورکس کے پارٹنرز یہ ہیں: 4-H اونٹیریو؛ آرٹس نیٹ ورک فار چلڈرن اینڈ یوتھ؛ بوائز اینڈ گرلز کلبز آف کینیڈا - سنٹرل ریجن؛ اوفیا؛ پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو؛ YMCA اونٹیریو۔

### اقتباسات

"یہ نیشنل یوتھ ویک ہے اور مواقع کے ایک شہر کی حیثیت سے، ہم اپنے نوجوانوں کو سیکھنے، نشوونما اور کھیلنے کے لیے بے حد جگہیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمیں اونٹیریو میں نوجوانوں کے لیے ایک دوستانہ کمیونٹی کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر یہ اعزاز حاصل کرنے پر فخر ہے اور میں اپنی کمیونٹی کے ان قابل فخر شراکت داروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کے حصول کو ممکن بنانے میں مدد دینے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں، میں برامپٹن کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ سٹی کے سوشل چینلز کو فالو کریں اور مشغول رہنے کے لیے رنگا رنگ ورچوئل سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے [brampton.ca](http://brampton.ca) وزٹ کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"حال ہی میں، سٹی آف برامپٹن نے اپنی پہلی یوتھ انگیجمنٹ اسٹریٹیجی شروع کی ہے، جو نوجوانوں کے ذریعے نوجوانوں کے لیے ہے - یہ اونٹاریو میں اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے۔ سٹی کا عملہ برامپٹن میں نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے وقت ہے اور پروگراموں اور ترغیبات کو مرتب کرتے وقت ہم ہمیشہ اپنے نوجوانوں کی ضروریات اور نقطہ ہائے نظر کو ملحوظ

خاطر رکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ہمارے جاری کاموں کی وجہ سے ہم آئندہ برسوں میں بھی یہ اعزاز حاصل کرتے رہیں گے۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے شہروں اور قصبوں نے نوجوانوں کی مشغولیت کے حوالے سے پوری کمیونٹی کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے ان کی اپنی جگہوں پر ملنے کے لیے نمایاں کوششیں کی ہیں اور فیصلہ سازی کے عمل میں نوجوانوں کو شامل کرتے ہوئے انہیں ایک فعال کردار سونپا گیا ہے۔ ہم شاندار نتائج دیکھ رہے ہیں کیونکہ نوجوانوں کو با اختیار بنایا گیا ہے تاکہ وہ قائدانہ کردار ادا کریں اور اپنے اسکولوں، محلوں اور کمیونٹیوں کی مجموعی صحت اور فعالیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔"

- کیتھی ڈینیر، سی ای او، پارکس اینڈ ری کریٹیشن اونٹیریو

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)